

## عرض مؤلف

”الأربعین من القرآن“ زندگی کے مختلف احوال کے متعلق قرآنی ہدایات پر مشتمل چالیس آیات کریمہ کا مجموعہ ہے۔

”الأربعین من القرآن“ کی تالیف کا مقصد خصوصاً اسکول و کالجس کے طلبہ و طالبات اور عوام الناس کو قرآن کے پیغام سے جوڑنا ہے۔

”الأربعین من القرآن“ میں چالیس آیات کریمہ کو اردو، انگریزی اور ہندی ترجمہ و مختصر وضاحت کے ساتھ جمع کیا گیا ہے تاکہ ان آیات کو یاد کرنے کے ساتھ سمجھ لیا بھی جائے اور زندگی کی راہ میں ان سے روشنی لی جائے۔

# الأربعین من القرآن

(حصہ اول)

## {2} ذکر الہی

أَلَا بَدِئُكَ اللَّهُ تَطْبِئُ الْقُلُوبُ

(سورة الرعد، آیت: ۲۸)

جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

Know that it is the remembrance of Allāh alone

that brings calm to the hearts.

جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان

نسیب ہوتا ہے۔

سکون دل نہ خواہشاتِ نفسانی میں چھپا ہے نہ دولتِ مندی میں نہ دنیا کے عیش میں نہ

اس کی لذتوں میں بلکہ یہ ذکرِ الہی سے حاصل ہوتا ہے۔

## {1} محبتِ خدا

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

(سورة البقرة، آیت: ۱۷۵)

جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔

Those who believe love Allāh the most.

جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

محبتِ خدا ہی ایک مومن کا اصل سرمایہ ہے۔ مومن: اپنے ماں باپ، آل، اولاد، مال و

دولت، الغرض ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے اور

محبتِ خدا کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔

{4} نصرتِ خدا  
 اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ  
 (سورة محمد، آیت: ۷)

اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔

If you help (the Dīn [Religion] of) Allāh, He will  
 help you.

अगर तुम अल्लाह (के दीन) की मदद करोगे तो वोह तुम्हारी  
 मदद फ़रमाएगा।

جب کوئی خدمتِ دین میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اور جس کے  
 ساتھ خدا کی مدد و نصرت ہو تو اس کا ہر کام کامیاب ہے۔

{3} توکل علی اللہ  
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ  
 (سورة الطلاق، آیت: ۳)

جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہے۔

Whoever puts his trust in Allāh, then He (Allāh) is  
 Sufficient for him.

जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसके  
 लिए काफ़ी है।

توکل: نام ہے اپنے معاملات کی تکمیل میں رب کی ذات پر بھروسہ کرنے کا۔ جو کوئی  
 اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنے کے بعد رب کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ضرور  
 اس کی مدد فرماتا ہے۔ کوشش کئے بغیر توکل کی بات کرنا نادانی ہے اور توکل کے بغیر  
 صرف اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا تکبر ہے۔

{6} ادبِ نبی ﷺ

وَتُعْزِرُوهُ وَتُقَرِّبُوهُ

(سورة الفتح، آیت: ۹)

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بے حد تعظیم و تکریم کرو۔

Revere and venerate him heart and soul.

आप (सल्लल्लाहु अल्यही व-आलिही व-सल्लम) की बे-हद

ता'ज़ीमो तकरीम करो।

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایمان کی شرط ہے بارگاہ نبوت میں ادنیٰ سی بے ادبی ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ اقوال و اعمال سب کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں ان کے لئے خدا کی طرف سے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔

{5} رضائے الہی

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

(سورة التوبة، آیت: ۷۲)

اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔

The greatest (bliss of all) is the pleasure and

acceptance of Allah.

अल्लाह की रज़ा सब से बड़ी चीज़ है।

خدا کی رضا مومن کا مقصود اصلی ہے۔ اس کا ہر کام اسی کے حصول کے لئے ہوتا ہے، اس کی نماز اس کا روزہ اس کی زندگی اس کی موت سب رضائے الہی کے لئے ہوتی ہے۔ جس کو خدا کی رضا مل گئی تو اس کو دنیا و آخرت کی ہر نعمت مل گئی۔

## {8} مقام انسان

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

(سورة الاسراء آیت: ۷۰)

بیشک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔

We have indeed honoured the children of Adam.

بے-شک ہم نے بنی آدم کو بزرگی بخشا۔

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی، یہ ساری کائنات حضرت  
انسان کے لئے ہے اور انسان اپنے رب کے لئے۔

## {7} اتباع نبی ﷺ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

(سورة آل عمران آیت: ۳۱)

آپ فرمادیجئے: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔

Say: If you love Allāh, follow me.

آپ فرما دیجیے: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو  
میری پیروی کرو۔

زندگی کے ہر کام میں آپ ﷺ کے طریقہ پر چلنے سے ہی محبت خدا اور رسول کی تکمیل  
ہوتی ہے، اتباع کے بغیر محبت کا دعویٰ ناقص ہے جس طرح کہ محبت کے بغیر اتباع کا  
دعویٰ فضول ہے۔

{10} اہمیتِ دُعا

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

(سورة المؤمن، آیت: ۶۰)

تم مجھ سے دُعا کرو میں تمہاری دُعا قبول کروں گا۔

Always pray to Me; I shall certainly grant your  
prayer.

तुम मुझ से दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कुबूल करूँगा।

دُعا: بندے کو رب سے جوڑتی ہے، دُعا کے ذریعہ بندہ اپنی بات کو رب کی بارگاہ میں  
پیش کرتا ہے، دُعا قبولیت کے یقین کے ساتھ کرنی چاہئے۔

{9} ترتیلِ قرآن

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

(سورة المزمل، آیت: ۴)

قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔

Recite the Qur'ān with most pleasant pauses.

कुरआन खूब ठँहँर ठँहँर कर पढाकरो।

قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ  
اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔

{12} نماز کا ادب

وَقَوْمُوا لِلَّهِ قُنُوتِينَ

(سورة البقرة آیت: ۲۳۸)

اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔

Stand before Allāh as an epitome of

submissiveness and lowliness.

अल्लाह के हुज़ूर अदब से खड़े रहो।

نماز محض اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں کمال عاجزی کے ساتھ اظہارِ بندگی کا نام ہے۔ حالت نماز میں ظاہر و باطن ہر اعتبار سے عاجزی کی کیفیت ہونی چاہئے۔

{11} مقصودِ زندگی

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(سورة الذاریات آیت: ۵۶)

میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی

اختیار کریں۔

I created the jinn and human beings solely to adopt

My servitude.

مैं ने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसी लिए पैदा किया कि

वोह मेरी बंदगी इख्तियार करें।

انسان کا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، عبادت کا مطلب صرف نماز و روزہ کی ادائیگی ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملہ کو حکمِ خداوندی کے مطابق انجام دینا عبادت میں شامل ہے۔

{14} مالِ حرام سے اجتناب

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

(سورة النساء، آیت: ۲۹)

تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔

Do not devour one another's wealth unlawfully.

تुम एक दूसरे का माल आपस में ना-हक़ तरीक़े से न खाओ।

کمائی میں ناحق طریقہ سے بچنے کا معنی صرف چوری، دھوکہ سے بچنا ہی نہیں ہے بلکہ ہر اس ذریعہ آمدنی سے بچنا ہے جس میں خیانت اور خلاف حق صورت پائی جاتی ہو۔

{13} حق کا ساتھ

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

(سورة البقرة، آیت: ۴۲)

حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔

Do not mix up the truth with falsehood.

हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ।

اسلام کے آنے سے حق واضح ہو گیا اور باطل آشکار ہو گیا، حق کی تائید اور باطل کے رد کا نام اسلام ہے، حق و باطل میں تمیز نہ کرنا خلاف اسلام ہے۔



## {16} نعمت کی پوچھ

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

(سورة التكاثر، آیت: ۸)

پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔

Then on that Day, you will certainly be questioned  
about the bounties.

فیر اس دین تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔

نعمت کی ناقدری اور اس کا غلط استعمال دنیا میں نعمت سے محرومی اور آخرت میں  
شرمندگی کا ذریعہ بنتی ہے۔

## {15} فضول خرچی سے احتیاط

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

(سورة الاعراف، آیت: ۳۱)

کھاؤ، پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔

Eat and drink, but do not spend extravagantly.

کھاؤ، پیو اور فوجول خرچی نہ کرو۔

فضول خرچی سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بے جا خرچ اور ضرورت سے زیادہ  
خرچ آدمی کو تنگدستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اخراجات میں میانہ روی گزارے کو  
سنجھال کر رکھتی ہے۔

## {18} محنت و کوشش

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

(سورة النجم، آیت: ۳۹)

انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اُس نے کوشش کی۔

Man (according to justice) will get only that for  
which he strives.

انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اُس نے کوشش کی۔

کوشش کرنا انسان کا کام ہے اس کو پورا کرنا خدا کا کام ہے۔ ہمتِ مرداں مددِ خدا۔

## {17} شکر گزاری

لَيْنِ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

(سورة ابراهيم، آیت: ۷)

اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر (نعمتوں میں) ضرور اضافہ کروں گا۔

If you are thankful, I shall certainly increase (My  
blessings on) you.

اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر (نعمتوں میں) ضرور

افزائے گا۔

خدا کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے حاصل ہونے پر اس کی حمد بیان کی جائے اور اس  
نعمت کو خدا کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔

{20} اُمیدِ رحمت

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

(سورة الزمر، آیت: ۵۳)

تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔

Do not lose hope of Allāh's mercy.

تو م الللاھ کی رھمت سے مایوس نہو نا۔

نا امید ہونا مومن کی شان نہیں، کسی بھی وقت رب کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے اور

حالات بدل سکتے ہیں۔

{19} مشکلات سے چھٹکارہ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

(سورة الطلاق، آیت: ۲)

جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لئے (دنیا و آخرت کے رنج و غم سے)

نکلنے کی راہ پیدا فرمادیتا ہے۔

Whoever fears Allāh, He makes a way out for him

(from pain and grief of this world and the

Hereafter).

جو الللاھ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لئے (دنیا و آخرت کے

رنج و غم سے) نکلنے کی راہ پیدا فرماتا ہے۔

خدا کی ناراضگی سے ڈر کر صحیح زندگی گزارنا انسان کو اچھا انسان بھی بناتا ہے اور کامیاب

انسان بھی۔

{22} پاکیزگی

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

(سورة التوبة، آیت: ۱۰۸)

اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔

Allāh loves those who commit themselves to  
purity.

اللہ پاک ”پاک“ رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔

خدا کو وہ لوگ پسند ہیں جن کا ظاہر نجاستوں سے اور باطن وسوسوں سے پاک ہوتا ہے۔

{21} بے حیائی سے دوری

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ

(سورة الانعام، آیت: ۱۵۱)

بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔

Do not draw near to shameful deeds.

بے-ہیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔

بے حیائی کرنے سے نہیں بلکہ اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا، کیونکہ جو بے  
حیائی کے قریب جاتا ہے اس کا بے حیائی سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔

{24} خدمتِ والدین

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

(سورة النساء، آیت: ۳۶)

ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

Treat the parents with moral excellence.

माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो।

ماں باپ کی جائز بات ماننا، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو ناراض نہ کرنا اور ان کے لئے دُعا کرنا یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔

{23} اخوتِ ایمانی

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

(سورة الحجرات، آیت: ۱۰)

بلاشبہ (سب) اہل ایمان (آپس میں) بھائی ہیں۔

The truth is that (all) believers are brothers (to one another).

बिला-शुब्हा (सब) अहले ईमान (आपस में) भाई हैं।

مومن اپنے مومن بھائی کے لئے وہی بھلائیاں پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

{26} تزکیہ نفس

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

(سورة الأعلى، آیت: ۱۴)

بیشک وہی بامراد ہوا جو (نفس کی آفتوں سے) پاک ہو گیا۔

Indeed only he who is purified (from the afflictions  
of his ill-commanding self and pollution of sins)  
will triumph.

بے-شک وہی با-مرا د ہوا جو (نفس کی آفتوں سے) پاک ہو  
گیا۔

دل پاک تو سارا جسم پاک اور دل ناپاک تو سارا جسم ناپاک۔

{25} مال و اولاد کی آزمائش

لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

(سورة المتفقون، آیت: ۹)

تمہارے مال اور تمہاری اولاد (کہیں) تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ  
کردے۔

Let not your wealth and your children make you  
neglectful of the very remembrance of Allāh.

توہارے مال اور توہاری اولاد (کہیں) توہیں اللہ کی یاد  
سے غافل نہ کر دے۔

اولاد اور دولت خدا کی نعمت ضرور ہیں لیکن خدا کی ان نعمتوں کو خدا کی قربت کا ذریعہ  
بنانا چاہئے نہ کہ دوری کا۔

{28} اچھی گفتگو  
 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا  
 (سورة البقرة آیت: ۸۳)

لوگوں سے اچھی بات کرو۔

Talk of piety to the common people.

لوگوں سے اچھی بات کرو۔

انسان کی پہچان نہ اس کے لباس سے ہوتی ہے نہ اس کی رنگت سے، بلکہ انسان کی پہچان اس کی گفتگو سے ہوتی ہے۔

{27} دشواری سے آسانی  
 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  
 (سورة الانشراح آیت: ۶)

یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔

Verily, with hardship there is ease.

यकीनन दुश्चारी के साथ आसानी है।

مشکلات میں ناامیدی کا شکار نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتے۔

{30} قَلتِ آرزو

أَمْرٌ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمْتَنِي

(سورة النجم آیت: ۲۴)

کیا انسان کے لئے وہ (سب کچھ) ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟

Is (all) that available for man what he longs for?

क्या इंसान के लिए वोह (सब कुछ) है जिस की वोह तमन्ना करता है?

ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو، کسی خواہش کے پورا نہ ہونے پر رنجیدہ نہیں بلکہ خدا کے فیصلہ پر راضی رہنا چاہئے۔

{29} بد گمانی سے پرہیز

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ

(سورة الحجرات آیت: ۱۲)

اے ایمان والو! زیادہ گمانوں سے بچا کرو۔

Avoid most conjectures.

ऐ ईमान वालो! ज़ियादा गुमानों से बचा करो।

اچھا گمان عبادت ہے۔



{32} برائی کا علاج

إِدْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

(سورة فصّلت، آیت: ۳۲)

برائی کو بہتر (طریقے) سے دور کیا کرو۔

Remove the evil in a better (way).

बुराई को बेहतर (तरीके) से दूर किया करो।

برائی کا جواب برائی سے دینے سے برائی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔

{31} صلح، صفائی

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

(سورة النساء، آیت: ۱۲۸)

صلح بہترین چیز ہے۔

Reconciliation is best.

सुलाह बेहतरिन चीज़ है।

ہمیں فیہیجی کا کام نہیں کرنا چاہئے جو کاٹتی ہے بلکہ سوئی کا کام کرنا چاہئے جو جوڑتی ہے۔

## {34} معیارِ عزت

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

(سورة الحجرات آیت: ۱۳)

بیشک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ  
پرہیزگار ہے۔

Surely, the most honourable amongst you in the  
sight of Allāh is he who fears Allāh the most.

بے-شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ با-عزت وہ ہے جو  
تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

نہ عربی کو نجی پر نہ کالے کو گورے پر نہ امیر کو غریب پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اگر  
فضیلت حاصل ہے تو نیکی کی بنیاد پر ہے۔

## {33} اہل و عیال کی ذمہ داری

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

(سورة التحريم آیت: ۲)

اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔

Safeguard yourselves and your families against a  
Fire.

اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔

ہر شخص پر اس کی پہلی ذمہ داری اپنی اور اپنے اہل و عیال کے اصلاح کی ہے۔

## {36} فکرِ آخرت

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

(سورة الحشر، آیت: ۱۸)

ہر شخص غور کر لے کہ اس نے کل (قیامت) کے لئے آگے کیا بھیجا ہے۔

Everyone should be vigilant to what he has sent forward for tomorrow (the Day of Reckoning).

हर शख्स गौर कर ले कि उस ने कल (क्रियामत) के लिए आगे क्या भेजा है।

ہوشیار ہے وہ شخص جو اپنا محاسبہ کیا اور موت کے بعد والی زندگی کے لئے عمل کیا۔

## {35} حقیقتِ دنیا

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

(سورة الحديد، آیت: ۲۰)

دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ کا سامان ہے۔

The life of the world is nothing but belongings that deceive.

दुन्या की ज़िन्दगी तो मँहज़ धोके का सामान है।

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے۔

{38} راہِ خدایمیں خرچ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

(سورة النحل آیت: ۹۶)

جو (مال و زر) تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس  
ہے باقی رہنے والا ہے۔

The (riches) that you possess will be no more and  
what is with Allāh will last.

جو (مالو جڑ) تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو  
اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔

جو کھایا وہ ہضم ہو گیا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، جو چھوڑ کر گیا وہ وارثوں کا ہو گیا، ابن آدم کا  
مال تو وہ مال ہے جو اس نے راہِ خدا میں خرچ کیا۔

{37} حسنات کفارہ سیئات

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

(سورة هود آیت: ۱۱۴)

بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔

Surely, good actions erase the evil ones.

بے-شک نیکیاں بُراہیوں کو مٹا دیتی ہیں۔

اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لینی چاہئے اس سے وہ گناہ بھی معاف ہوگا اور  
نفس پر اس کا اثر بھی۔

## {40} اجر کا یقین

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ

(سورة البقرة آیت: ۱۹۷)

تم جو بھلائی بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

Whatever good you do, Allāh knows it well.

تुम जो भलाई भी करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है।

کسی کی نیکی ضائع نہیں جاتی، اگر کوئی ذرہ برابر بھی بھلائی کرتا ہے تو ضرور اس شخص کو اس کا صلہ ملے گا۔

## {39} حقیقتِ موت

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

(سورة الأنبياء آیت: ۳۵)

ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

Every soul has to taste death.

हर जान को मौत का मज़ा चखना है।

موت سے کس کو یاری ہے۔ آج وہ کل ہماری باری ہے۔













৫২

৫৩

